

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خط لکھنے والے کاتب کون تھے؟

من هم كتبة رسائل الرسول صلى الله عليه وسلم؟

[اردو - اردو - urdu]

شیخ محمد صالح المنجد

ترجمہ: اسلام سوال و جواب ویب سائٹ
تنسيق: اسلام ہاؤس ویب سائٹ

ترجمة: موقع الإسلام سؤال وجواب
تنسيق: موقع islamhouse

2013 - 1434

IslamHouse.com



نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خط لکھنے والے کاتب کون تھے؟

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خط لکھنے والے کون تھے؟

الحمد لله

حافظ ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ :

سیرت نگاروں نے ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے نام ذکر کیے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب تھے اور وحی اور خطوط وغیرہ لکھا کرتے تھے ان میں مندرجہ ذیل صحابہ شامل ہیں :

ابوبکر الصدیق ، عمر بن الخطاب ، عثمان بن عفان ، علی بن ابی طالب ، زبیر بن العوام ، عامر بن فہیرہ ، عمرو بن العاص ، ابی بن کعب ، عبداللہ بن الارقم ، ثابت بن قیس بن شماس ، حنظلہ بن الربیع الاسدی ، مغیرہ بن شعبہ ، عبداللہ بن رواحہ ، خالد بن الولید ، خالد بن سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم -

کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے اول لکھنے والے معاویہ بن ابی سفیان اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہم تو یہ ان میں سے خصوصی شان رکھتے تھے - ۱ھ

دیکھیں زاد المعاد (۱ / ۱۱۷) -

ابن مفلح حنبلی کا کہنا ہے :

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کاتبوں کی ایک جماعت تھی جن میں ابی بن کعب ، زید بن ثابت ، علی ، عثمان ، حنظلہ اسدی ، معاویہ ، اور عبداللہ بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہم شامل ہیں -



نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط اور جوابات لکھنے والے مستقل کاتب وہی تھے جنہوں نے مکمل وحی کی بھی کتابت کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا تھا کہ وہ سریانی لکھنی پڑھنی سیکھیں تا کہ اس زبان میں لکھے جانے والے رسائل اور خطوط کے جوابات اسی زبان میں دیے جاسکیں ، تو انہوں نے سریانی اٹھارہ یوم میں سیکھی لی تھی - دیکھیں :
:الأداب الشرعية (۲ / ۱۶۱) -

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں :

قضاعی کا کہنا ہے : نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے بادشاہوں کے لیے خطوط لکھنے والے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے ، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ وحی بھی لکھا کرتے تھے ، اور زبیر اور جہم رضی اللہ تعالیٰ عنہم صدقات کے اموال لکھا کرتے تھے - دیکھیں : التلخیص الحبیر (۴ / ۳۴۶-۳۴۷) -

واللہ اعلم .